



لکھا کرو، قسم کہ اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سے سوائے حق کے کچھ اور نہیں نکلتا

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں جو کچھ سنتا سب لکھ لیا کرتا تھا، تاکہ ان کو محفوظ رکھا جا سکے۔ لہذا قریش کے کچھ لوگوں نے مجھ سے منع کیا اور کہا کہ کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی بات لکھ لیا کرتے ہو، جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، غصہ اور خوشی دونوں حالتوں میں گفتگو کرتے ہیں؟ لہذا میں نے لکھنا موقوف کر دیا اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: "لکھا کرو، قسم کہ اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سے سوائے حق کے کچھ اور نہیں نکلتا" [صحیح] [رواہ أبو داؤد]

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی بات کو لکھ لیا کرتا تھا، تاکہ اسے تحریری شکل میں محفوظ رکھا جا سکے۔ لیکن قریش کے کچھ لوگوں نے مجھ سے منع کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں اور غصہ اور خوشی دونوں حالتوں میں گفتگو کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ غلطی بھی کر بیٹھیں (اس لیے آپ کی بات کو لکھا مت کرو) چنانچہ میں نے لکھنا بند کر دیا۔ پھر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی اس بات کا ذکر کیا، تو آپ نے اپنے دہن مبارک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم لکھا کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سے ہر حال میں حق ہی نکلتا ہے۔ خوشی کی حالت میں بھی اور غصہ کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا فرمایا: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ} (اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے)۔ [سورہ نجم: 3-4]

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/65077>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

